



IMPERIAL LIMITED

**Notice of 19th
Annual General Meeting
To Be Held on Thursday November 27, 2025**

IMPERIAL LIMITED

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the shareholders of Imperial Limited will be held on Thursday November 27, 2025, at 09:30 a.m. at Registered Office of the Company situated at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on December 26, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the financial year 2025-2026 and to fix their remuneration.

Special Business

4. To consider and approve the proposal regarding sale of freehold land, buildings on freehold land, plant and machinery and other assets of the Company located at Karmanwala, Tehsil Phalia, District Mandi Bahauddin by passing following resolution(s) as ordinary resolution(s) with or without any modification, addition or deletion in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017:

RESOLVED that the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's assets located at Karmanwala, Tehsil Phalia, District Mandi Bahauddin comprised of Freehold Land, Buildings on Freehold Land, Plant and Machinery, Furniture & Fixture, Equipment and other assets ("the Assets").

RESOLVED FURTHER that, as part and parcel of the foregoing consent, Board of Directors be and are hereby authorized and empowered for the Assets Sale. The Board may delegate its powers to Chief Executive Officer (CEO) or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the asset sale and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:

- a. Conducting, negotiations, obtaining quotations etc., with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the assets;
- b. Selling the Assets to any individual, firm/partnership, bank or private/public limited company or organization or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution for vacation of lien/charges against assets if any, entering into agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving of sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and / or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the asset sale in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
- c. Representing before the Sub-Registrar or any other Competent Authority and getting any sale deed or other documents registered and collecting consideration amount in respect of the Assets sale, and
- d. Generally performing and executing in respect of the assets all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the Assets sale.

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to Assets sale.

FURTHER RESOLVED that the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the SECP without the need of any other further approval of the shareholders.

FURTHER RESOLVED that certified copies of this resolution as present form or modified by CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given.

5. Any other business with permission of the Chair.

The statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to Special Businesses is annexed to Notice sent to shareholders.

By Order of the Board of Directors



Company Secretary

Lahore
November 05, 2025

Notes:

1. Pursuant to the instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) facility of online meeting through Zoom Platform is also available for shareholders to attend Annual General Meeting to avoid the public gathering in order to protect the health of valued shareholders' and their well-being. To attend the General Meeting through video link, members and proxies are requested to register their particulars such as Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, Cell Number and eMail Address by sending an e-mail at cs@imperiallimited.co at earliest but not later than 48 hours before the Meeting time with legible copy of valid CNIC/Passport.

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received in time as mentioned above. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions, related to the agenda items of the General Meeting on the above-mentioned e-mail address.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 21, 2025, to November 27, 2025 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, at the close of business on November 20, 2025, will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
3. A member eligible to attend, speak and vote at meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy, in order to be effective, must be properly filled in and received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the scheduled time of meeting.
4. The Shareholders are requested to have their Folio/Account details (Participant ID and Sub-account) and original CNIC for identification purpose, readily available with them, at the time of meeting. In case of a corporate entity, Resolution of the Board of Directors or Power of Attorney with specimen signatures of the nominee should be produced.
5. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location may demand video conference facility. Provided that such request should reach the Company at least seven days prior to the date of general meeting with his complete particulars.
6. Members of the Company can exercise their right to demand a poll subject to sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and the applicable clauses of the "Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018" (the "Regulations"). The right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

Procedure for E-Voting

- a. Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business on November 20, 2025.
- b. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. E-Voting lines will start from November 21, 2025, 09:00 a.m. and shall close on November 24, 2025, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore - 54600, Pakistan or email at chairman@imperiallimited.co one day before the Annual General Meeting on November 24, 2025 up to 5 p.m. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC. This postal Poll paper is also available for download from the website of the Company at www.imperiallimited.co or use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority. E-voting Service Provider: CDC Share Registrar Services Limited.

7. Shareholders having physical shares are requested to open sub-account with any of the broker or Investor account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, at any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the stock exchange.
8. Pursuant to the Securities and Exchange Commission of Pakistan's notification S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the shareholders of Colony Textile Mills Limited had accorded their consent for circulation of annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report, etc. ("annual audited financial statement") to its members through QR enabled code and weblink. The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2024 along with Auditors and Directors Reports thereon, Chairman's Review and other information on the website of the Company: www.crescenttextile.com and can be accessed through following weblink and QR Code:

Weblink: <https://www.imperiallimited.co/investor-information>

QR Code:



9. Shareholders are advised to:
 - a. Send valid copy of CNIC/NICOP, if not provided earlier to our Share Registrar.
 - b. Notify any change of address immediately, if any.

Statement Under Section 134(3) Of The Companies Act, 2017

This statement sets out the material fact pertaining to the special business to be transacted in the annual general meeting of the to be held on November 27, 2025

Item No. 4 of the Agenda

Sale of Assets

Pursuant to the approval of the Shareholders of the Company in the 10th Annual General Meeting held on January 31, 2017, assets of Mian Chanu Unit of the Company were disposed off during the year ended 30 September 2017. The management of the Company is actively pursuing sale of its Remaining Assets. Such kind of resolution(s) passed under section 183(3) of the Companies Act, 2017 if not implemented within one year from the date of passing stand lapsed, hence, the Board of Directors has approved the disposal of Remaining Assets (the Phalia Unit) subject to approval of the Company's Shareholders in the forthcoming Annual General Meeting. The information required under SRO 423(1)/2018 dated April 03, 2018 is as follows:

Detail Of Assets To Be Sold

All Values in Pak. Rupees in '000

Description of Assets	Cost as at 30-06-2025	Book Value as at 30-06-2024 (without surplus on revaluation)	Revalued Amount / Fair Value / Current Market Value
Land 138 Acres 02 Kanals and 16 Marlas Situated at (Industrial) Karmenwala, Tehsil Phalia District Mandi Bahauddin	173,577	173,577	1,652,195
Building	791,400	493,124	2,805,768
Plant & Machinery	2,146,247	1,496,107	7,446,121
Furniture, fixture and equipment	37,947	17,291	-
Stores, spares & loose tools	259,630	209,003	-

* Phalia Sugar Unit of the Company was acquired in the Financial Year 2007-2008.

The assets are revalued as of June 30, 2025.

The Proposed Manner of Disposal

Tender (Advertisement in newspapers).

Reason For The Disposal of Assets

In line with object clause of the Company, management has decided to dispose the assets pertain to sugar manufacture facility coupled with other certain factors which have led to the decision by the Directors of the Company to dispose of the prescribed assets. The saturated capacity in sugar sector, sugar cane procurement issues, volatility in sugar prices, lack of good returns and yield in the area, management has decided to dispose of the Assets.

Utilization of Sale Proceeds

Sale proceeds of the Mian Chanu Sugar Unit were utilized to pay various liabilities (Financial Institutions: Rs. 1,143.185 Million, Sponsors' Loan: Rs. 566.732 Million and Trade Creditors and other Payables: Rs. 711.531 million, including Cane Growers). An amount of Rs. 1,813 million (inclusive of Mark-up) has been placed with various financial institutions/mutual funds.

After meeting all financial liabilities a certain portion of funds have been invested in the new business segments of the Company (Hydroponics and Construction) as duly approved by the Shareholders of the Company in its Extra-Ordinary General Meeting held on August 20, 2020 as both the projects are under the process of installation & construction respectively and expected to be completed and available for sale in the coming financial year.

Benefits Expected To Accrue to the Shareholders

In addition to present placement of funds, the proceeds from disposal of Assets under reference will be invested/placed with financial institutions/capital market in accordance with principle line of business and in other ongoing business ventures of the Company attracting the reasonable earnings to generate the maximum revenues and to maximize the wealth of Shareholders of the Company.

Future Business Plan

The Company under the authority of resolution of the shareholders duly passed in the Annual General Meeting held on October 28, 2022 is in the process of disposal of its Remaining Assets; i.e. Composite Sugar Manufacturing Facility situated at Phalia, District Mandi Bahauddin and well on its way to roll out the other business segments. The Company is facing delay in disposal of assets than projected time due to various reasons, including but not limited to the Global and Domestic Macro-Economic conditions, Double Digit Cost of Funds, Large Transaction Size and country's economic and political situations are also causing delays to materialize the transaction. Despite of all we are hopeful that the sale transaction for Remaining Assets will be materialized in a possible minimum time.

Funds presently available with the Company have been deployed in various Financial Instruments (Commercial Banks, Micro Finance Banks and Mutual Funds), Construction and Hydroponics project. Proceeds from the sale of Remaining Assets shall be deployed together with the existing funds in accordance with the Object Clause of the Company and other lawful businesses permitted by Memorandum of Association of the Company.

After extensive research and analysis, the Company is in the process of erection of the Hydroponics Project as major shipment of machinery has been reached at site and remaining shipments are scheduled according to the project plan. The project is expected to be completed in the coming financial year.

Besides, Hydroponics the Company has also invested a chunk from its available funds for the purchase of land in secured and recommended locality in Lahore. Number of houses under construction are near to completion and such houses will be available for sale during the coming calendar year.

Availability of Relevant Documents

The documents pertaining to foregoing special business are available for inspection at the registered office of the Company on any working day upto November 27, 2025 during business hours and also at the time of General Meeting.

The Directors, Sponsors, majority shareholders and their relatives are not interested, directly or indirectly, in the above businesses except to the extent of shares that are held by them in the Company



BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST IMPERIAL LIMITED

Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozpur Road, Lahore
Tel: 042-35758970-2 website: www.imperiallimited.co

**Ballot Paper for voting through Post for Poll to be held on
November 27, 2025 at 09:30 a.m. at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozpur Road, Lahore**

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@imperiallimited.co

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No./CDC Participant / Investor ID with sub account No.	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No.(in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC, NICOP/Passport No.(in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Special Resolutions

Agenda Item 4. To consider and approve the proposal regarding sale of freehold land, buildings on freehold land, plant and machinery and other assets of the Company located at Karmanwala, Tehsil Phalia, District Mandi Bahauddin by passing following resolution(s) as ordinary resolution(s) with or without any modification, addition or deletion in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017:

RESOLVED that the consent of shareholders be and is hereby accorded to the disposal and sale of Company's assets located at Karmanwala, Tehsil Phalia, District Mandi Bahauddin comprised of Freehold Land, Buildings on Freehold Land, Plant and Machinery, Furniture & Fixture, Equipment and other assets ("the Assets").

RESOLVED FURTHER that, as part and parcel of the foregoing consent, Board of Directors be and are hereby authorized and empowered for the Assets Sale. The Board may delegate its powers to Chief Executive Officer (CEO) or any other person on such terms and conditions they deem fit, to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and /or give effect to the asset sale and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:

- Conducting negotiations, obtaining quotations etc, with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are in the best interest of the Company and its shareholders and which secure the best available market price for the assets;
- selling the Assets to any individual, firm/partnership, bank or private / public limited company or organization or to any other person and, for that purpose, negotiating with financial institution for vacation of lien/charges against assets if any, entering into agreement to sell, sale deed or any other agreement with the buyer(s) or any other person, receiving of sale consideration, executing, preparing and signing any sale deed, conveyance deed and /or transfer documents in favor of the buyer(s) or another person to effect the asset sale in favor of the buyer(s) or any other person by representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
- representing before the Sub-Registrar or any other Competent Authority and getting any sale deed or other documents registered and collecting consideration amount in respect of the Assets sale, and
- generally performing and executing in respect of the assets all lawful deeds, agreements, acts and things as they may think fit and proper in order to implement and complete the Assets sale.

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to Assets sale.

FURTHER RESOLVED that the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the SECP without the need of any other further approval of the shareholders.

FURTHER RESOLVED that certified copies of this resolution as present form or modified by CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	I / We assent to the Resolutions (FOR)	I / We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	Special Resolution as per Agenda Item No. 4 (as given above)		

Signature of Shareholder / Proxy
(in case of Corporate Entity, please affix company stamp)

Joint Holder 1 (if any)

Joint Holder 2 (if any)

Place:

Date:

Notes / Instructions:

1. Please fill the above Form carefully.
2. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman (Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozpur Road, Lahore - 54600, E-Mail at chairman@imperiallimited.co)
3. Clear and valid Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
4. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or **before November 24, 2025, during business** hours Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

07

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ امپیریل لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز 1964ء وال سالانہ اجلاس جمعرات 27 نومبر 2025 کو صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں واقع اسماعیل ایوان سائنس بلڈنگ، 205 فیروز پور روڈ لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کار و پار

1. 26 دسمبر 2024 کو، مشفقہ و آغوشی صلاحیتیں ایجنسی نے بینک کے منٹس کی نقد کر کے لیے۔
2. 30 جون 2025 کو، نوٹس ہونے والے سال کے لیے مٹنی کے سالانہ ڈیٹا شدہ مالیاتی طور پر موصول کرنے، جو رکن نے اپنا جائزے کے لیے اس پروڈاکٹر کی ضرورت اور ڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ۔
3. مالی سال 2025-2026 کے لیے ڈیٹرز کی نقد کر کے اور ان کے معاوضے کا تعین کر۔

خصوصی کاروبار

- [illegible]

[illegible]

- a. دیکھی رکھنے والے خلیوں کے ساتھ ایسے طریقے سے اور ایسے شرائط و ضوابط پر جو پہلی اور اس کے کھسے اینٹکان کے بہترین مفاد میں ہوں اور جو انٹوں کے لیے بہترین دستیاب ماریٹ قیمت کو محفوظ رکھنے ہوں، کرنے، مذاکرات کرنا، کوکیشن حاصل کرنا وغیرہ؛

- b. کسی فرد پر کسی شخصیت پر یا نثر پر ایک ایسا مبالغہ آمیز بیان ہے جس میں اس شخصیت یا نثر کے بارے میں حقیقت کے خلاف ادعا کیا جاتا ہے۔ چار جز کی جتنی بھی بات مبالغہ آرائی کے ساتھ کہی جاتی ہے، اگر کوئی بات حقیقت سے جڑا ہو تو وہ حقیقت ہے۔

- c. سب رجسٹرا یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹر کرنا اور اثاثوں کی فروخت کے سلسلے میں غور کی رقم جمع کرنا، اور

- d. عام طور پر اثاثوں کے سلسلے میں تمام قانونی اعمال، معاہدوں، اعمال اور چیزوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا جیسا کہ وہ اثاثوں کی فروخت کو نافذ کرنے اور مکمل کرنے کے لیے مناسب اور مناسب سمجھیں۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی اثاثوں کی فروخت کے حوالے سے تمام واقعاتی یا ذیلی کارروائیاں کرنے کی مجاز ہے۔

مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ بورڈ کو ان قراردادوں میں ترمیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ایس ای سی بی کی طرف سے ہدایت / ضروری ہو سکتی ہے۔

- مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قرارداد کی مصدقہ کاپیاں بطور موجودہ شکل میں یا CEO/کمپنی سیکرٹری کے ذریعے ترمیم شدہ متعلقہ حکام کو مطلع کی جائیں اور اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک کہ اس کے برعکس تحریری نوٹس نہیں دیا جاتا۔

5. چیئر مین کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134

فلرازانور

کمپنی سیکرٹری

نہیں

1

1. سکیم برائے ریڈیو ایف ایم (SECP) کی حمایت کے مطابق پدم کے ذریعے ان لائن مینگ کی سہولت شیڈر ہولڈرز کے لیے سالانہ جنرل مینگ میں شرکت کے لیے بھی مقابہ بنے گا۔ ہولڈر کی اطلاع سے پدم کے لیے پتہ فراہم کیا جائے گا۔

وید پولک اور لاگ ان اسٹارڈاں شیئر ہولڈرز کے ساتھ مشترکہ جائیں گے جن کے ای میلز، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل ہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ وقت پر موصول ہونے والے شیئر ہولڈرز کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہتھکڑے / تجاویز / جو کہ جنرل میننگ کے اجنڈے سے متعلق ہیں، مذکورہ ای میل ایڈریس پر بھیجیں۔

2. کھیتی کی حصص کی تقاضی کی تاہم 21 نومبر 2025 سے 27 نومبر 2025 تک (دونوں دن سہیت) بذریعہ کی کھیتی کے شیڈولرز، M/s کو میمول والے جسمانی منتقلی/ CDS ٹرانزیکشن IDs، حمید مجید ایبوی اٹلس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، H.M. اس، 7-، اسکول روڈ، 20 نومبر 2025 کو دوبارہ کھیتا، میننگ میں شرکت کے لیے شیڈولرز کے دوہنگ کے حقوق کا تعین کرنے کے لیے وقت پر موجود کیا جائے گا۔

3. میننگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنے اپنا کسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر کسی، موثر ہونے کے لیے، میننگ کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے پہلے کہیں کے رجسٹرڈ دفتر میں مناسب طریقے سے دو اصول کو اپنایا جانی چاہیے۔

4. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے وقت اپنے فولیو/ اکاؤنٹ کی تفصیلات (شرعہ کی شناخت اور ذیلی اکاؤنٹ) اور شناختی حصعہ کے لیے اصل CNIC رکھیں، جو ان کے پاس آسانی سے دستیاب ہوں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارد یا ادارہ آف انارنی مینجمنٹس کے دستخطوں کے ساتھ شیئر یا اکاؤنٹ پر۔

5. جغرافیائی حاتم پر پراش پانی 10% یا اس سے زیادہ، بیشتر ہولڈنگ کے اگلے درجے میں پڑاؤ کی طرف سے ایک کھنکھس کی بہت کم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہی شکل پانی درخواست اپنی مکمل تصفیات کے ساتھ جڑیں میٹنگ کی کارخانے کے آگے اسات میں پہلے کھنکھس پہنچ جانے۔
6. کھنکھس کے آگے کی کمزور 2017، کے سیکشن 143، 144 اور، "کلیئر (پوش پلٹ) کے کلیئر،" 2018 ("مضابطہ") کے قبل علاقہ نشوونما کے تحت، آبی، شادی، مطالعہ کرنے کا اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک انکوائری، دھجکی بہت کے ذریعے

ووٹ ڈالنے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کمپنی کے ممبران کو تمام کاروبار کے لیے فراہم کی جائے گی کمینیز ایکٹ، 2017 کے تحت خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے اور مضوابط میں موجود شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔

- a ای دو جنگ کی سہولت کی تفصیلات کھینچی گئی کہ ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 20 نومبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کھینچی گئی کہ ان کے رجسٹر میں درست سیل نمبر/ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

- b وہیب ریڈس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے لاگ ان کریں کوٹھن کیا جائے گا۔ سیکہ رتی، کوڈ مزید تجدید ایسی ویس (پرائیویٹ) لینڈ کے وہیب پرنس (ای ویٹکس سے فروغ و نمائندہ ہونے کے طے) سے اس ایم ایس کے ذریعے لاگ ان کریں کوٹھا تے جائے گا۔

- c ای ویونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

- d ای ویٹنگ لائنیں 21 نومبر 2025 صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 24 نومبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا

جاتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔